

یہ معلومات پناہ کے متلاشی ان لوگوں کیلئے ہے جن کے معاملات پر فاسٹ ٹریک سسٹم کے تحت عمل ہو رہا ہے - اس کا مطلب وہ لوگ ہیں جو 13 اگست 2012 اور 31 دسمبر 2013 کے دوران کشتی کے ذریعے آئے اور جنہیں کبھی مانس جزیرے یا ناؤرو نہیں لے جایا گیا۔

اس گروہ کے تمام افراد کو ایک خط بھیجا گیا ہے جس میں انہیں اس نئے ٹیمپریری پروٹیکشن ویزا (TPV) یا سیف بیوین اینٹر پرائز ویزا (SHEV) کیلئے درخواست دینے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس خط (دعوت نامے) میں کہا گیا ہے کہ وہ TPV یا SHEV کیلئے 60 روز کے اندر درخواست دے سکتے ہیں۔

ان تمام لوگوں کو جنہیں یہ خط (دعوتنامہ) 2015 یا جنوری- جون 2016 کے درمیان موصول ہوا، انہیں جلد ہی ایک اور خط محکمے کی جانب سے موصول ہوگا جس میں ان سے TPV یا SHEV کیلئے درخواست دینے دوبارہ درخواست کی جائیگی۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ TPV یا SHEV کیلئے 60 یا 30 روز کے اندر درخواست دی جاسکتی ہے۔ ان خطوط کا ایک نمونہ یہاں دیا جا رہا ہے۔

اگر آپ کو محکمے کی طرف سے یاد دہانی کا ایسا کوئی خط موصول ہو تو آپ کو جلد از جلد ASRC سے رابطہ کرنا چاہئے۔
ان لوگوں کیلئے جنہیں محکمے کی جانب سے یاد دہانی کا خط موصول ہو :

* اگر آپ ایک کلانٹ ہیں: اگر آپ ASRC کے قانونی پروگرام میں جاچکے ہیں اور آپ ہماری انتظار کی فہرست میں شامل ہیں تو آپ ہمیں 9274 9889 (03) فون کریں اور بتائیں کہ آپ کو محکمے سے یاد دہانی کا خط موصول ہوا ہے۔ آپ اپنے خط کی ایک نقل legal_ft@asrc.org.au کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم آپ کو جلد از جلد درخواست دینے کیلئے ملاقات کا وقت دینگے۔

* اگر آپ کلانٹ نہیں ہیں: اگر آپ ASRC کے قانونی پروگرام میں نہیں گئے اور کبھی کسی دوسری قانونی خدمات کی تنظیم سے مدد نہیں ملی تو براہ کرم 9274 9827 (03) پر ہم سے پیر یا جمعرات کے دن 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان بات کریں بشرطیکہ آپ کو یاد دہانی کا خط موصول ہوا ہو۔